

COVID-19 ویکسین کون لگوا سکتا ہے؟

COVID-19 ویکسین 5 سال اور زائد عمر کے ہر فرد کے لیے تجویز کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو ان میں سے کسی کیفیت کا سامنا ہے تو آپ ویکسین لگوا سکتے ہیں:

- | | | |
|---|---|------------------|
| ✓ ماضی میں خون کے لوٹھڑے بننے کا سامنا ہوا ہے | ✓ جگر کی بیماری | ✓ ذیابیطس |
| ✓ COVID-19 انفیکشن پہلے ہی ہو چکی ہے | ✓ خوراک کی الرجیاں | ✓ دمہ |
| ✓ صحت کے دیگر مسائل | ✓ موسمی الرجیاں جیسے پولن الرجی | ✓ سرطان / کینسر |
| ✓ حمل سے ہونے کا ارادہ ہے، یا حمل سے ہیں یا چھاتی سے دودھ پلا رہے ہیں | ✓ منہ کے راستے استعمال کی جانے والی ادویات سے الرجیاں | ✓ دل کا عارضہ |
| | | ✓ HIV |
| | | ✓ گردے کی بیماری |

بنیادی صحت کے عارضوں میں مبتلا افراد کے لیے ویکسین لگوانا اور بھی اہم ہے کیونکہ ان میں سے بہت سے افراد کے COVID-19 سے شدید بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔

آپ کے COVID-19 ویکسین نہ لگوا پانے کی واحد وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کو ویکسین میں موجود اجزاء میں سے کسی سے الرجی ہو یا COVID-19 ویکسین کی گزشتہ خوراک یا کسی اور ویکسین یا ٹیکے کے ذریعے دی جانے والی دوا سے شدید الرجک رد عمل ہوا ہو۔ اگر آپ کو الرجی ہے یا پہلے الرجی ہوئی تھی تو تب بھی آپ ویکسین لگوا سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنے سے پہلے آپ کو اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ سے بات کر لینی چاہیے۔

COVID-19 کی ویکسینوں میں پریزروٹیووز، لیٹکس، انڈے، پارہ، جنینی ٹشو یا انسانی خلیے، جیلیٹن یا جانوروں کی دیگر مصنوعات، اینٹی بائیوٹکس، یا مائیکرو چپس موجود نہیں ہیں۔ اگر ویکسین لگوانے کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ سے بات کریں۔

**COVID-19 ویکسینیں مفت، محفوظ اور مؤثر ہیں۔
آج ہی ویکسین لگوائیں!**

مزید معلومات کے لیے [nyc.gov/covidvaccine](https://www.nyc.gov/covidvaccine) ملاحظہ کریں۔

صورت حال کے ارتقاء کو دیکھتے ہوئے NYC محکمہ صحت سفارشات تبدیل کر سکتا ہے۔ 11.15.21

**NYC VACCINE FOR ALL:
SAFE, FREE, EASY**

NYC
Health